

ROOTWORDS SURAH SAAFFAT 83-182

شيعيه	سقيم	مذبرين	فراغ	تنطقون	يزفون
ش ي ع	س ق م	د ب ر	ر و غ	ن ط ق	ز ف ف
انہی کے پیروں	بیمار ہوں	پیچھے پھیر کر	پھر متوجہ ہوئے	تم بولتے	دوڑتے ہوئے
تَنجُونَ	بِنِيَانًا	الْمُسْقِلِينَ	ذَاهِبًا	الْمَنَام	أَذْبَحَكَ
ن ح ت	ب ن ي	س ف ل	ذ ه ب	ن و م	ذ ب ح
تم تراشتے ہو	ایک عمارت	زیر کردیا	جانے والا ہوں	خواب	تم کو ذبح کر رہا ہوں
تَلَّهُ	الْبِلَاءِ	الْمُسْتَجِينَ	بِعَلَا	تَذْرُونَ	عِشْوَرًا
ت ل ل	ب ل و	ب ي ن	ب ع ل	و ذ ر	ع ج ز
لٹا دیا اسے	آزرائش	واضع	بہل کو	تم چھوڑ دیتے ہو	ایک بڑھیا
الْفَابِرِينَ	ذَفْرُنَا	لَتَذْرُونَ	أَبَى	الْمَشْخُونَ	فَسَاهَمَ
غ ب ر	د م ر	م ر ر	أ ب ق	ش ح ن	س ه م
پیچھے رہ جانے والوں میں	ہلاک کر دیا ہم نے	تم گزرتے ہو	بھاگ گیا	بھری ہوئی تھی	پھر قرعہ ڈالا
الْمَذْخُوعِينَ	فَالْتَقَمَهُ	الْخَوْثُ	مَلِيمٌ	الْمُسْتَجِينَ	لَلْبَيْتِ
د ح ص	ل ق م	ح و ت	ل و م	س ب ح	ل ب ت
رک اٹھائی	پھر ان کو نگل لیا	چھلنے	پشیمان تھا	تسبیح کرنے والے	تو وہ بتا
فَتَبَدَّلْنَاهُ	بِالْعُرَاءِ	الرُّؤُوسِ	بِقَطِينٍ	مِائَةٍ	فَأَسْتَفْعِمُهُمْ
ن ب ذ	ع ر ي	ر أ ي	ی ق ط ن	م أ ي	ف ت ي
پھر ہم نے اسے ڈال دیا	میدان میں	خواب	بیلدار	سو	پس ان سے پوچھیے
نَسِيًا	يَصِفُونَ	بِقَاتِينٍ	صَالٍ	الْمُنْصُورُونَ	بِسَاخِيهِمْ
ن س ب	و ص ف	ف ت ن	ص ل ي	ن ص ر	س و ح
رشتہ	وہ بناتے ہیں	بہکا سکتے	جانے والا ہے	مدد دیئے جائیں گے	ان کے میدان میں